



سوال

(283) ٹیلی ویژن پر فنکار کا بوسہ لینا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے چھپ کر اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر ایک فنکار کی تصویر کو بوسہ دے رہی ہے، اس منظر نے مجھے غضبناک کر دیا اور میں نے اس وقت سے اسے چھوڑ رکھا ہے امید ہے مجھے اس کی اس حرکت اور میں نے اسے چھوڑ رکھا ہے اس کے بارے میں حکم شریعت سے آگاہ فرمائیں، نیز رہنمائی فرمائیں گے کہ اس صورتحال میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے جبکہ مجھے یہ بدگمانی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ کسی وقت میری خیانت کرے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

بے شک اسبابِ فتنہ کے سامنے عورت میں برداشت اور صبر بہت کم ہوتا ہے اور اس میں بھی کوشش نہیں کہ مردوں کی تصویروں کو دیکھنا اور گلوکاروں اور فنکاروں کی آوازوں کو سننا مردوں اور عورتوں کے لئے فتنہ کا ایک بہت بڑا سبب ہے لہذا ہم آپ کو نصیحت کریں گے کہ اپنی بیوی کے معاملہ میں غیرت کا ثبوت دیں، اسے فتنہ و فساد کے اسباب سے بچائیں اور گھر میں فحش رسالوں میں شائع ہونے والی فتنہ انگیز تصویروں اور شراروں سے بھری ہوئی فلمیں نہ لائیں اسے ایسے مردوں کی تصویروں دیکھنے سے منع کریں کہ جن کی صورت یا آواز کی خوبصورتی کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، مذکورہ حالات میں عورت سے ترک تعلق غیرت کی علامت ہے لیکن آپ اسے ترک تعلق کا سبب بھی بتادیں اور یہ یقین حاصل کر لیں کہ آئندہ وہ مردوں کی طرف دیکھ کر لطف اندوز نہیں ہوگی بلکہ اپنی نظر کو وہلپنے شوہر پر ہی مرکوز رکھے گی اور آپ بھی اپنی نظر کو اپنی بیوی تک ہی محدود رکھیں گے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 249



محدث فتویٰ